

سے خطاب فرمایا۔

- ☆ ۴ مئی کو شب قدر میں مدرسہ رحمانیہ میں جلسہ دستار بندی سے مہتمم صاحب نے تفصیلی خطاب فرمایا۔
- ☆ ۷ مئی کو مٹہ مغل خیل شب قدر میں جامعہ محمدیہ میں ختم بخاری شریف کروایا، مولانا حق نواز حقانی مہتمم مدرسہ کی دعوت پر علماء و فضلاء حقانیہ سے تفصیلی خطاب فرمایا

قدیم جامع مسجد مولانا عبدالحق کی تاریخی محراب کی نئی جامع مسجد کے تہ خانے میں منتقلی اور تنصیب دارالعلوم کی ۶۰ سالہ قدیم اور خوبصورت ترین تاریخی مسجد کو پچھلے رمضان میں نئی مسجد کی تعمیر کی وجہ سے شہید کر دیا گیا تھا لیکن مسجد کے ہال کے خوبصورت چار سے زائد منقش مصلے محفوظ کر لئے گئے تھے، اس کے ساتھ ساتھ اس کے تاریخی محراب کو ثابت نکال کر بحفاظت تقریباً دو سو فٹ دور لے جا کر نصب کرنا انجینئرنگ کے لحاظ سے ناممکن تھا، لیکن الحمد للہ، اللہ تعالیٰ کی نصرت اور حاجی مسعود (ماہر معمار) کی شبانہ روز کوششوں سے یہ فنی اور تاریخی معجزہ اس صورت میں رونما ہوا کہ چالیس ٹن وزنی محراب کو یہاں سے کاٹ کر مختلف مشینوں، آلات کے ذریعے آہستہ آہستہ اٹھا اور گھسیٹ کر نئی جگہ پر دستار بندی کے روز ۵ مئی ۲۰۱۶ء کو ہمیشہ ہمیشہ کے لئے نصب کر دیا گیا اور بروز جمعہ حضرت مہتمم مولانا سمیع الحق صاحب نے اس میں نماز جمعہ پڑھا کر اس کا افتتاح کر دیا۔ محراب کی منتقلی کے فنی، تکنیکی اور مالی معاونت کے سلسلے میں ہم ٹھیکیدار جناب الحاج دلاور خان صاحب، جناب طارق خٹک صاحب، جناب روحیل خٹک صاحب، جناب حسن صاحب برہان، جناب سردار صاحب، جناب زاہد صاحب مردان، جناب احمد صاحب آدمزئی، جناب زاہد صاحب اکوڑہ خٹک، جناب ایوب ناظم، جناب طارق (پی ٹی سی)، جناب انجینئر نور افضل صاحب، جناب منشی جعفر شاہ اور ویلڈر طارق، محمد عمران وغیرہ معاونین کا خصوصی شکریہ ادا کرتے ہیں جن کی کوششوں سے یہ تاریخی فن تعمیر کا اثاثہ محفوظ اور منتقل ہوا۔

مدرس جامعہ حقانیہ مولانا رشید احمد سواتی صاحب کی والدہ کی وفات

۲۱ اپریل کو مولانا رشید احمد سواتی استاد الحدیث جامعہ حقانیہ کی والدہ ایک سو نوٹھ میں انتقال فرما گئیں، نماز جنازہ حضرت مولانا انوار الحق صاحب نے پڑھائی۔ اسی طرح نئی مسجد کے اکاؤنٹ حاجی ماصل خان بابا کی جو سالہ بیٹی بھی گزشتہ حادثاتی طور پر انتقال کر گئی تھیں، اسی طرح دارالعلوم کے مدرس مولانا ہلال احمد کی چچی جان بھی گزشتہ دنوں وفات پا گئیں تھیں، ان کی تعزیت کیلئے حضرت مولانا انوار الحق صاحب، مولانا راشد الحق، مولانا یوسف شاہ، مولانا عرفان الحق، صاحبزادہ اسامہ سمیع اور دیگر اساتذہ کرام، ناظم محمد عالمگیر، عارف اور محمد ادریس پسماندگان سے تعزیت کیلئے گئے۔